



七

اکاؤنٹ کی اقسام اور نمایاں خصوصیات:

تفصیلات

نان ریز پڈنٹ کرنٹ اکاؤنٹس

نان ریزڈنٹ سیونگزا اکاؤنٹ

رہنما
(ایم آر اے آر)

تاج ریسٹریٹریٹل
(این آر اے این)

شدن کرخی
(ایف سی وائی)

رہنمائی میں
(ایک آواز آئے)

نان سہیڑ میل
(این آر اے این)

فنان کر خسی
(این آر - ایف سی وائی)

کم بیلنس کے لئے

کھلانے کیلئے	برقرار رکھنے کیلئے
--------------	--------------------

اکاؤنٹ کی مشینیں فیس

کیا اکاونٹ پر منافع دیا جاتا ہے
(متبادل اطلاق ٹیکس کی شرح سے
مشروط ہے)

منافع بخش اشارے

منافع کی ادائیگی کی تعداد

مثلاً (1000 روپے پہ آپ تحسین
کرد مدت میں۔۔۔ روپے
کا کہتے ہیں)

سرو سن

اقسام

سر دوس چار بجے: یہ اس وقت کے ایام سر دوس چار بجے کی فہرست ہے۔ اس میں تمام چار بجے کا شامل نہیں ہے۔ آپ کو ہر ایک میں سب سے پہلے ایک نوٹ شامل ہے چار بجے کی مکمل فہرست مہل سکتی ہے۔
www.soneribank.com اور تمام برائے خبر، ہر سہ ماہی نوٹ کو کلین کو یکم بجے چار بجے کو ملے گا۔



Soneri Bank

قسم	ٹان ریڈیٹ کرنٹ اکاؤنٹس			ٹان ریڈیٹ کرنٹ سیونگ اکاؤنٹس		
	ریڈیٹنگ ٹیکل (این آر اے آر)	ٹان ریڈیٹنگ ٹیکل (این آر اے این)	مٹلن کرنسی (این آر سی ڈی ٹی)	ریڈیٹنگ ٹیکل (این آر اے آر)	ٹان ریڈیٹنگ ٹیکل (این آر اے این)	مٹلن کرنسی (این آر سی ڈی ٹی)
کیش فرازیشن	امنسٹی			0 روپے		
	امنسٹی			0 روپے		
	بینک کے ای ٹی ایم سے وڈروال			0 روپے		
	دیگر بینک کے ای ٹی ایم سے وڈروال			35/- روپے فی فرازیشن (شمل FED)		
ایس ایم ایس ایف	امنسٹی			600 روپے فی فرازیشن یا فرازیشن کی رقم کا 4.50% جو بھی زیادہ ہو		
	ایس ڈی سی / ڈیجیٹل / کیسٹرنک			0 روپے		
	دیگر فرازیشنز کے لئے			افراد کے ذاتی اکاؤنٹس PKR اور ایف سی ڈی کے لئے 300 روپے ماہانہ USD 0.80/- ماہانہ یا اس کے مساوی دیگر ایف سی ڈی کے لئے تمام کاروباری اداروں کے اکاؤنٹس بشمول واحد ملکیت PKR اور ایف سی ڈی کے لئے 500 روپے فی مہینہ USD 1.75/- ماہانہ یا اس کے مساوی دیگر ایف سی ڈی کے لئے		
	ڈیپازٹ کارڈ			ڈیپازٹنگ ٹیکل		
ڈیپازٹ کارڈ	(ماسٹر کارڈ اسٹیٹنڈرڈ)			اسٹیٹنڈرڈ - 4,000/- روپے		
	(ماسٹر کارڈ گولڈ)			گولڈ - 5,000/- روپے		
	ماسٹر کارڈ پلٹیم			پرائمری		
	پلیٹینم			سلیونری		
چیک بک	اجراء			30 روپے فی لینڈ مساوی دیگر کرنسی		
	اسٹاپ بینک			مفت		
	(چیک بک کی نقلی کے چار حیز (اگر 45 دن کے اندر وصول نہ کی جائے)			کم از کم - 800 روپے فی چیک فی بدلت زیادہ سے زیادہ - 1,600 روپے (کئی چیکس ہونے کی صورت میں)		
	ٹریسیلائٹ زر (مٹائی)			ٹریسیلائٹ زر (مٹائی)		
ٹریسیلائٹ زر (غیر ملکی)	ٹریسیلائٹ زر (مٹائی)			ٹریسیلائٹ زر (مٹائی)		
	ٹریسیلائٹ زر (مٹائی)			ٹریسیلائٹ زر (مٹائی)		
	ٹریسیلائٹ زر (مٹائی)			ٹریسیلائٹ زر (مٹائی)		
	ٹریسیلائٹ زر (مٹائی)			ٹریسیلائٹ زر (مٹائی)		
اکاؤنٹ کی اینٹرفیس	ٹریسیلائٹ زر (مٹائی)			ٹریسیلائٹ زر (مٹائی)		
	ٹریسیلائٹ زر (مٹائی)			ٹریسیلائٹ زر (مٹائی)		
	ٹریسیلائٹ زر (مٹائی)			ٹریسیلائٹ زر (مٹائی)		
	ٹریسیلائٹ زر (مٹائی)			ٹریسیلائٹ زر (مٹائی)		
فٹ فرافسر	ٹریسیلائٹ زر (مٹائی)			ٹریسیلائٹ زر (مٹائی)		
	ٹریسیلائٹ زر (مٹائی)			ٹریسیلائٹ زر (مٹائی)		
	ٹریسیلائٹ زر (مٹائی)			ٹریسیلائٹ زر (مٹائی)		
	ٹریسیلائٹ زر (مٹائی)			ٹریسیلائٹ زر (مٹائی)		
ڈیجیٹل بینکنگ	ٹریسیلائٹ زر (مٹائی)			ٹریسیلائٹ زر (مٹائی)		
	ٹریسیلائٹ زر (مٹائی)			ٹریسیلائٹ زر (مٹائی)		
	ٹریسیلائٹ زر (مٹائی)			ٹریسیلائٹ زر (مٹائی)		
	ٹریسیلائٹ زر (مٹائی)			ٹریسیلائٹ زر (مٹائی)		



Soneri Bank

ٹان ریڈیٹنٹ سیونگز اکاؤنٹس		ٹان ریڈیٹنٹ کرنٹ اکاؤنٹس		اقسام	سروسز	
مندان کرنسی (این آر۔ایف سی ڈاٹی)	ٹان ریڈیٹنٹ (این آر۔ایف سی ڈاٹی)	مندان کرنسی (این آر۔ایف سی ڈاٹی)	ٹان ریڈیٹنٹ (این آر۔ایف سی ڈاٹی)			
7 ڈالر فی ٹرانزیکشن مین کورسٹر چار جی دیگر کرنسی (چار جی ایس ای سی کے مطابق عساکم ہوں گے)	0 روپے	مثالی اطلاقی نہیں	7 ڈالر فی ٹرانزیکشن مین کورسٹر چار جی (دیگر کرنسی چار جی ایس ای سی کے مطابق عساکم ہوں گے)	0 روپے	ٹارگل	
	400 روپے فی انسرومنٹ		400 روپے فی انسرومنٹ	انسرسٹی		
	600 روپے فی انسرومنٹ		600 روپے فی انسرومنٹ	ای دن		
مفت					کسٹمر کی درخواست	اکاؤنٹ کی بندش
لازمی معلوم ہونا چاہئے						
اکاؤنٹ کھولنے کی ضروریات: اکاؤنٹ کھولنے کے لئے آپ کو ریگولیشنری ہدایات اور بینک کی داخلہ پالیسی کے مطابق شناخت کی کچھ ضروریات کو پورا کرنا ہوگا۔ ان میں آپ کی شناخت کی تصدیق کے لئے دستاویزات اور معلومات کی انسدادی رسالہ ہو سکتی ہے۔ وقت فوقت ایسی معلومات کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ براہ مہربانی مسزید تفصیلات کے لئے ہم سے رابطہ کریں۔ چیک بولس: بے لسانی سے چیک کا اجراء پاکستان بینک کوڈ کی دفعہ 489F کے مطابق مجبرمانہ غفلت ہے۔ اسی مناسبت سے آپ کو انتہائی احتیاط کے ساتھ چیک لکھنا چاہئے۔ سیف کراؤی: آپ کے اکاؤنٹ تک رسائی کے لواڑ کی محفوظ تحویل جیسے ڈیپٹ کارڈز، ہین کوڈز، چیکس، ای بیٹنگلے پوزیشنز، پاس ورڈز، دیگر ذاتی معلومات، وغیرہ۔ آپ کی ذمہ داری ہے۔ صاف کی حساب سے سیکورٹی خطرات کی صورت میں چیک کو ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جاسکتا ہے۔ معلومات کے حصول کیلئے سونییری بینک کی حساب سے آپ کو بھی کال نہیں کی جائے گی۔ ریکارڈ اپڈیشن: کسی بھی اہم مواصلات کی خسرومی سے بچنے کے لئے ہیش چیک کے پاس موجود پروفنٹنل / ریکارڈ کو آپ ڈیٹ رکھیں۔ آپ اپنی معلومات اپ ڈیٹ کرانے کے لئے متعلقہ برانچ سے رجوع کر سکتے ہیں۔						
اگر آپ اس اکاؤنٹ کو طویل عرصے تک استعمال نہیں کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ کا اکاؤنٹ 12 ماہ تک غیر فعال رہتا ہے تو، اس کو غیر فعال سمجھا جائے گا۔ اگر آپ کا اکاؤنٹ غیر فعال ہو جاتا ہے تو، آپ اکاؤنٹ سے کوئی بھی ڈیپٹ ٹرانزیکشن نہیں کر سکیں گے تاہم کریڈٹ ٹرانزیکشن جاری رہے گی۔ اپنے اکاؤنٹ کو فعال کرنے کے لئے آپ کو دستخط شدہ وورمنٹ اکاؤنٹ دی ایکٹیویشن مدم مین کرنا ہوگا۔ اگر ایک پینٹنر / لمبلی پاپو میڈر تصدیق یا پر 6 ماہ بعد لاکک سرٹیفیکٹ جمع کرانے میں تاہم رہتا / رہتی ہے پینٹنر اپنے اکاؤنٹ سے مسلسل 6 ماہ تک ٹین نکالوانے میں تاہم رہتا ہے یا زیادہ / بہن / بیٹی سالانہ جان میرج سرٹیفیکٹ جمع کرانے میں تاہم رہے تو اکاؤنٹ غیر فعال ہو جائے گا۔						
میں حقائق پر مبنی اس بیان کی وصولی اور اس کو بخوبی سمجھنے کا اعتراف کرتا ہوں						
تاریخ:		کسٹمر کا نام:				
منتخب شدہ پروڈکٹ:						
اکاؤنٹ کی آپریٹنگ انسٹرکشنز:						
پتہ:						
برائے رابطہ:						
کسٹمر کے دستخط:						
ای میل ایڈریس:		موبائل نمبر:				
تصدیق شدہ دستخط:						

نوٹ: منافع کا حامل اکاؤنٹ کے مابین اوسط پینٹنر پر مبنی ہوگا اور منافع کی ادائیگی کے لیے درجے کی شناخت کے لیے، وہی طریقہ استعمال کیا جائے گا۔